



## تحقیق میں حصہ لیں

عدم مساوات کی وضاحت کرنا: ایس اے این آئی (SANI) پراجیکٹ

پرنسپل تحقیق کار:

ڈاکٹر فیونا مولا

ڈاکٹر ٹموتھی راس

سینئر فار لیڈر شپ

### کیا آپ ایک "نسلی" فرد ہیں؟ کیا آپ کو کوئی معذوری لاحق ہے؟

اپنے منفرد تجربات کے بارے میں مزید جاننے میں ہماری مدد کیلئے ایک  
مطالعہ میں حصہ لیں!

### "نسلی" کا کیا مطلب ہے؟

ایک "نسلی" شخص وہ ہوتا ہے جو اپنی شناخت ایک "رنگ والا فرد"، غیر سفید یا غیر سفید  
فام کے طور پر کرواتا ہے۔

### مطالعہ کس بارے میں ہے؟

ہم معذوری کے ساتھ آپ کے تجربات اور صحت کی نگہداشت کے وسائل اور خدمات تک  
رسائی میں آپ کو درپیش چیلنجوں کے بارے میں جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔

### کون حصہ لے سکتا ہے؟

- 13-24 سال کی عمر کے نوجوان جو اونٹاریو میں معذوری کے ساتھ زندگی گزار  
رہے ہیں اور جو اپنی شناخت نسلی فرد کے طور پر کرواتے ہیں
- اونٹاریو میں رہنے والے معذوری کے حامل نسلی نوجوانوں کے والد یا والدہ/دیکھ  
بہال کرنے والے
- صحت کی نگہداشت فراہم کرنے والا (اونٹاریو میں مقیم) جو نسلی معذور نوجوانوں  
کی خدمت کر رہا ہے

### کیا شامل ہے؟

- ایک 1 سے 1.5 گھنٹے کا انٹرویو (ذاتی طور پر، یا ٹیلی فون/زوم کے ذریعے)
- ایک تصویر لینے کی سرگرمی
- ایک فنی سرگرمی (کسی فنکارانہ ہنر کی ضرورت نہیں؛ سامان فراہم کیا جائے گا)
- کل لگنے والا وقت: 3 سے 5 گھنٹے

### ممکنہ فوائد؟

- اپنے آرٹ ورک کو عوامی دیوار پر ڈسپلے کروائیں
- ایک معذوری والا نسلی فرد ہونے کے ناطے اہم مسائل کو اٹھائیں
- صحت کی نگہداشت کے نظام میں تبدیلی کے عمل کا حصہ بنیں

### ممکنہ خطرات؟

- جذباتی چیزوں کے بارے میں ممکنہ طور پر غیر آرام دہ گفتگو

حصہ لینے والوں کو ان کے وقت کی تعریف  
کے طور پر 75 ڈالر کا گفٹ کارڈ یا 10 رضا کارانہ  
گھنٹے ملیں گے۔

### سوالات پوچھنے

یا سائن اپ کرنے کیلئے،  
رابطہ کریں:

زہرہ کامانی

[zkamani@hollandbloorview.ca](mailto:zkamani@hollandbloorview.ca)

پوسٹ کی تاریخ:

ورژن کی تاریخ: دسمبر، 2022

آرای بی نمبر 0468



**Holland Bloorview**  
Kids Rehabilitation Hospital

کینیڈا کا واحد ہسپتال پر مبنی  
بچپن کی معذوری کا تحقیقی ادارہ

**Bloorview**  
RESEARCH INSTITUTE